

**Q. Translate the following into English, keeping in view the idiomatic/figurative expression.  
(10)**

تاریخ ایسے کامیاب لوگوں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے اپنی زندگی کا آغاز انتہائی مشکل ترین حالات سے کیا لیکن آگے چل کر وہ دنیا کے کامیاب اور نامور شخصیات میں شمار ہوئے۔ کامیابی، عزت اور شہرت آپ کو کبھی پلیٹ میں رکھ نہیں دی جاتی صرف دولت ہی آپ کو پلیٹ میں رکھ کر دی جاسکتی ہے اس کے لیے بھی ایک شرط لازم ہے کہ وہ آپ کے آباؤ اجداد کے پاس جائیداد ہونی چاہیے پھر ہی آپ کو دولت ملے گی۔ دولت سے آپ دنیاوی لوازمات تو خرید سکتے ہیں لیکن خوشی نہیں خرید سکتے۔ کبھی کبھی انسان کو عزت کمانے میں کئی دہائیاں لگ جاتی ہیں ذلت کمانے میں یا متنازع بننے میں ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے۔

The history is replete with such successful people who began their lives in extremely difficult situations, but with time, they became successful and famous personalities. Success, respect, and fame cannot come to you on a platter, only wealth can be bestowed upon you if you have ancestral property. For this, it is also imperative that your forefathers have left you with some property, only then you can gain wealth. With wealth, you can buy worldly possessions, but you cannot buy happiness. Sometimes, it takes many years for a person to earn respect or fame, and it takes only a moment to lose it by becoming involved in a dispute or by committing a shameful act.

Solved translation passage

History has many examples of people who started their lives with difficult situations but with the passage of time, they became successful and famous personalities. It is not easy to get success, honour and popularity through a shorter way except through wealth, but there is also a condition that you get no wealth that your ancestors must hold it then you get it. You can buy thing world's luxuries from wealth but not happiness. Sometimes it takes decades to make honour. One moment is enough to ~~earn~~ commit blunders and disputations.

work on the mistakes.

4/10

use shorter sentences to avoid grammatical mistakes.